



اس نہ کبھی یہ نہ ہیں کہ: ا! میرے رب! قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا"

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں: میں نے عرض کیا: ا! اللہ کے رسول! ابن جدعان زمانہ جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا کیا یہ عمل اسے فائدہ پہنچائے گا؟ آپ نے فرمایا: "یہ عمل اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا اس نہ کبھی یہ نہ ہیں کہ: ا! میرے رب! قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا"

[صحیح] [اسے مسلم نے روایت کیا ہے]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن جدعان کے بارے میں، جو کہ اسلام سے قبل قریش کا ایک سردار تھا خبر دیا۔ اور اس نے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور مسکینوں کو کھانا کھلانے جیسے کئی اچھے کام کیے تھے، جن کی ترغیب اسلام نے دی ہے، بتایا کہ یہ اعمال آخرت میں اس کے کچھ کام نہیں آئیں گے کیوں کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتا تھا اور اس نے کبھی یہ دعا نہیں کی تھی کہ ا! میرے رب! قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/65009>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

